

Jos

Chapter 13

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	ויהושע	זקן	בא	בימים	ויאמר	יהוה	אליו	אתה	זקנתה	באת	בימים
	اور-ישوع	بوڑھا	بو-گیا-تھا	عمر-میں	اور-کہا	یہوواہ-نے	اُس-سے	تُو	بوڑھا-ہو-گیا	آ-گیا-ہے	عمر-میں
	H3091	H2204	H0935	H3117	H0559	H3068	H0413		H2204	H0935	H3117
	והארץ	נשארה	הרבה	מאד	לרשתה:						
	اور-زمین	رہ-گئی-ہے	بہت	زیادہ	قبضے-میں-لینے-کو						
	H0776	H7604		H3966	H3423						

1۔ ضرورت کی کرنے قبضہ پر جس بے گیا رہ باقی کچھ کافی ابھی لیکن ہے، چکا ہو بوڑھا بہت [تُو] سے اُس نے رب تو تھا بوڑھا يشوع جب

2	זאת	הארץ	הנשארת	כל	גלילות	הפלשתים	וכל	הנשורי:			
	یہ	زمین	باقی-رہی-ہے	سارے	علاقے	فلسطینیوں-کے	اور-سارے	جسوری			
	H2063	H0776	H7604	H3605	H1552	H6430	H3605	H1651			

کی جس علاقہ کا جسور طرح اسی اور ہیں شامل سمیت عقرون اور جات اسقلون، اشدود، غزہ، شہروں شاہی کے اُن علاقے تمام کے فلسطیوں میں اِس کا عَوَّیوں ہے۔ جاتا دیا قرار حصہ کا کنعان ملک بھی اُسے ہے۔ عقرون سرحد شمالی کی جس اور ہے میں مشرق کے مصر جو ہے سیحور وادی سرحد جنوبی بھی علاقہ

3	מן	השיحור	ואשר	על	פני	מצרים	ועד	גבול	עקרון	צפונה	לכנעני
	سے	شیحور	جو	پر	سامنے	مصر-کے	اور-تک	حد	عقرون-کی	شمال-کی-طرف	کنعانیوں-کو
		H7883			H6440	H4714	H5704	H1366	H6138	H6828	
	תחשב	תחמשת	סרני	פלשתים	העזתי	והאשדודי	האשקלونی	הגתי	והעקרוני		
	شمار-کیا-جائے	پانچ	سردار	فلسطینیوں-کے	غزہ-والا	اور-اشدودی	اشقلونی	جتی	اور-عقرونی		
	H2803	H2568		H6430	H5841	H0796	H0832	H1663	H6139		

وהערים:
اور-عویم
[H5757](#)

کی جس علاقہ کا جسور طرح اسی اور ہیں شامل سمیت عقرون اور جات اسقلون، اشدود، غزہ، شہروں شاہی کے اُن علاقے تمام کے فلسطیوں میں اِس کا عَوَّیوں ہے۔ جاتا دیا قرار حصہ کا کنعان ملک بھی اُسے ہے۔ عقرون سرحد شمالی کی جس اور ہے میں مشرق کے مصر جو ہے سیحور وادی سرحد جنوبی بھی علاقہ

4	מתמן	כל	ארץ	הכנעני	ומערה	אשר	לצידנים	עד	אפקה	עד	גבול
	جنوب-سے	ساری	سرزمین	کنعانیوں-کی	اور-معارہ	جو	صيدونیوں-کا	تک	افیقہ	تک	حد
	H8486	H3605	H0776		H4632		H6722	H5704	H0663	H5704	H1366
	האמורי:										
	اموریوں-کی										
	H0567										

اور شہر افیق کر لے سے معارہ شہر کے صیدانیوں ہے۔ آتی صادق بھی پر شمال بات یہی آیا۔ نہیں میں قبضے کے اسرائیل تک اب ہے میں جنوب جو ہے۔ باہر سے حکومت کی اسرائیل تک اب کچھ سب تک سرحد کی اموریوں

5	וְהָאֶרֶץ	הַגְּבֻלָּה	וְכָל-	הַלְבָנוֹן	מִזְרַח	הַשְּׁמֹשׁ	זְדַמְבֵּעַל	תְּחַת	הַר-	חֶרְמוֹן	עַד
	اور-زمین	جبلوں-کی	اور-سارا	لبنان	مشرق	سورج	بعل-جاد-سے	نیچے	پہاڑ	حرمون	تک
	H0776	H1382	H3605	H3844	H4217	H8121	H1171	H8478	H2022	H2768	H5704

لְבָנָה
داخلہ
حمات
[H0935](#)
[H2574](#)

بے-گیا رہ باقی تک حمات لبو کر لے سے جد بعل میں دامن کے پہاڑ حرمون لبنان پورا میں مشرق اور ملک کا جبلوں علاوہ کے اس

6	כָּל-	יִשְׁבִּי	הָהָר	מִן-	הַלְבָנוֹן	עַד-	מִיַּם-שָׂרָף	כָּל-	צִידוֹנִים	אֲנָכִי	אֶרֶץ-שֵׁם
	سارے	باشندے	پہاڑ-کے	سے	لبنان	تک	مسرفوت-مائم	سارے	صیدونیوں	میں	نکال-دونگا-انہیں
	H3605	H3427	H2022	H3844	H5704	H5704	H4956	H3605	H6722	H0595	H3423

مִזְבְּנֵי
سامنے-سے
בְּנֵי
بنی
יִשְׂרָאֵל
اسرائیل-کے
רֶם
صرف
הַפְּלָה
تقسیم-کر
לְיִשְׂרָאֵל
اسرائیل-کو
בְּנַחֲלָה
میراث-میں
כְּאִשֶּׁר
جیسے
צִוִּיתִיךָ:
حکم-دیا-میں-نے-تجھے
[H6440](#)
[H3478](#)
[H5307](#)
[H7535](#)
[H3478](#)
[H5159](#)
[H6680](#)

بڑھتے کے اسرائیلیوں ہیں۔ آباد میں علاقے پہاڑی کے درمیان کے مائم مسرفات اور پہاڑوں کے لبنان جو بے شامل بھی علاقہ تمام کا صیدانیوں ان میں اس میں اسرائیلیوں مطابق کے حکم میرے ملک پورا یہ کر ڈال قرعہ ٹو کہ بے لازم لیکن گا۔ دو نکال سے سامنے کے ان کو لوگوں ان ہی خود میں بڑھتے کرے۔تقسیم

7	וְעֵדָה	חֶלְקִים	אֶת-	הָאֶרֶץ	הַזֹּאת	בְּנַחֲלָה	לְתַשְׁעַת	הַשְּׂבָטִים	וְחָצִי	הַשְּׂבָט	הַמְּנַשֶּׁה:
	اور-اب	تقسیم-کر	کو	زمین	اس	میراث-میں	نو	قبیلوں-کو	اور-آدھے	قبیلے	منسی-کے
	H6258	H0853	H0776	H2063	H5159	H8672	H7626	H2677	H7626	H4519	

دے۔ میں وراثت کو قبیلے آدھے کے منسی اور قبیلوں باقی نو اُسے

8	עֲמֹן	הָרְאוּבֵנִי	וְהַגְּדִי	לְקַחוּ	נַחֲלָתָם	אֲשֶׁר	נָתַן	לָהֶם	מִזְשָׁה	בְּעֶבֶר
	اس-کے-ساتھ	رائوبینیوں-نے	اور-جادیوں-نے	لے-لیا	میراث-اپنی	جو	دیا	انہیں	موسی-نے	پار
	H7206	H1425	H3947	H5159	H5414	H4217	H3383	H4872	H5676	

הִירְדֵן
یردن-کے
מִזְרַחָה
مشرق-کی-طرف
כְּאִשֶּׁר
جیسے
נָתַן
دیا
לָהֶם
انہیں
מִזְשָׁה
موسی-نے
עֶבֶד
بندے
יְהוָה:
یہوواہ-کے
[H3068](#)
[H5650](#)
[H4872](#)

تھا۔ چکا دے علاقہ مشرقی کا یردن دریائے کو قبیلے آدھے باقی کے منسی اور جد روبن، موسیٰ خادم کا رب

9	מְעֹרֹתָיִךְ	אֲשֶׁר	עַל-	שְׂפַת-	נַחַל	אֶרְנוֹן	וְהָעִיר	אֲשֶׁר	בְּתוֹךְ-	הַנַּחַל	וְכָל-
	عروعرے-سے	جو	پر	کنارے	نالے	ارنون-کے	اور-شہر	جو	بیچ	نالے-کے	اور-سارا
	H6177	H8193	H4311	H5704	H1769	H4334	H4334	H4311	H5704	H1366	

הַמִּישָׁר
میدان
מִדְבָּא
میدبا-سے
עַד-
تک
דִּבְרוֹן:
دیبون
[H4334](#)
[H4311](#)
[H5704](#)
[H1769](#)

بیچ کے وادی اسی اور عروعر شہر پر کنارے کے ارنون وادی جنوبی یعنی تھے گئے آ میں قبضے کے ان شہر تمام کے سیحون بادشاہ اموری کے حسبوں یوں تھاشامل میں اس بھی مرتفع میدان کا درمیان کے میدبا اور دیبون تک۔ سرحد کی عمونیوں میں شمال کر لے سے شہر کے

10	וְכָל	עֲרֵי	סִיחֹן	מֶלֶךְ	הָאֲמֹרִי	אֲשֶׁר	מֶלֶךְ	בְּחֻשְׁבוֹן	עַד-	נָבוֹל
	اور-سب	شہر	سیحون-کے	بادشاہ	اموریوں-کے	جو	بادشاہی-کرتا-تھا	حشبن-میں	تک	حد
	H3605	H5511	H4428	H0567	H2809	H5704	H1366			

בְּנֵי
بنی
עַמּוֹן:
عمون
[H5983](#)

بیچ کے وادی اسی اور عروعر شہر پر کنارے کے ارنون وادی جنوبی یعنی تھے گئے آ میں قبضے کے ان شہر تمام کے سیحون بادشاہ اموری کے حسبوں یوں تھاشامل میں اس بھی مرتفع میدان کا درمیان کے میدبا اور دیبون تک۔ سرحد کی عمونیوں میں شمال کر لے سے شہر کے

11	וְהַגְלֵעָד	וּבְגוֹל	הַגְּשׁוּרִי	וְהַמְעֻכָּתִי	וְכָל	הָר	חֶרְמוֹן	וְכָל-	הַבְּשָׁן	עַד-
	اور-جلعاد	اور-حد	جسوریوں-کی	اور-معکتیوں-کی	اور-سارا	پہاڑ	حرمون	اور-سارا	باشان	تک
	H1568	H1366	H1651	H4602	H3605	H2022	H2768	H3605	H1316	H5704

سَلְכָה:

سلکہ
[H5548](#)

بھی۔ علاقہ سارا کا بسن تک شہر سلکہ اور علاقہ پہاڑی کا حرمون علاقہ، کا معکتیوں اور جسوریوں جلعاد، طرح اسی اور

12	כָּל-	מַמְלָכוֹת	עוֹג	בְּבָשָׁן	אֲשֶׁר-	מֶלֶךְ	בְּעֶשְׂתָרוֹת	וּבְאֲדָרְעִי	הוּא	נִשְׂאָר
	ساری	سلطنت	عوج-کی	باشان-میں	جو	بادشاہی-کرتا-تھا	عشتاروت-میں	اور-ادرعی-میں	وہ	بچا-تھا
	H3605	H4468	H5747	H1316			H6252	H0154	H1931	H7604

מִיָּתֵר
بقیہ-سے

הַרְפָּאִים
رفائیم-کے

וַיָּבֹאוּ
اور-مارا-انہیں

מִנְשָׁה
موسیٰ-نے

וַיִּרְשָׁם:
اور-نکالا-انہیں

[H5221](#)

[H4872](#)

[H3423](#)

صرف سے قبیلے قامت دیو کے رفائیوں تھے۔ ادرعی اور عشتارات مرکز کے حکومت کی جس تھا میں قبضے کے عوج بادشاہ کے بسن علاقہ سارا یہ پہلے تھا۔ دیا نکال کو باشندوں تمام کر پا فتح پر علاقے اُس نے اسرائیلیوں تحت کے رہنمائی کی موسیٰ تھا۔ گیا رہ باقی عوج

13	וְלֹא	הַזְרִישׁוּ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	אֶת-	הַגְּשׁוּרִי	וְאֶת-	הַמְעֻכָּתִי	וַיֵּשֶׁב	גְּשׁוּר	וּמְעֻכָּת
	اور-نہیں	نکالا	بنی	اسرائیل-نے	کو	جسوریوں	اور-کو	معکتیوں	اور-بسا	جسور	اور-معکہ
	H3808	H3423		H3478	H0853	H1651	H0853	H4602	H3427	H1650	H4601

בְּקֶרֶב
درمیان

יִשְׂרָאֵל
اسرائیل-کے

עַד
تک

הַיּוֹם
دن

הַזֶּה:
آج-کے

[H7130](#)

[H3478](#)

[H5704](#)

[H3117](#)

[H2088](#)

ہیں۔ رہتے درمیان کے اسرائیلیوں تک آج یہ اور تھے، گئے رہ باقی معکتی اور جسوری صرف

14	רַק	לְשִׁבְט	הַלּוֹזִי	לֹא	נָתַן	נַחֲלָה	אֲשֵׁי	יְהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל	הוּא
	مگر	قبیلے-کو	لاویوں-کے	نہیں	دیا	میراث	قربانیاں	یہوواہ-کی	خدا	اسرائیل-کے	وہی
	H7535	H7626	H3878	H3808	H5414	H5159	H0801	H3068	H0430	H3478	H1931

נַחֲלָתוֹ
میراث-اُس-کی

כְּאִשֶּׁר
جیسے

דָּבַר-
کہا-تھا

לֹא:
اُس-سے

ס
—

[H5159](#)

[H1696](#)

ہیں۔ جاتی چڑھائی لئے کے خدا کے اسرائیل رب جو ہیں قربانیاں وہ والی جلنے حصہ موروثی کا اُن کیونکہ ملی، نہ زمین کوئی کو قبیلے کے لاوی صرف تھا۔ بتایا کو موسیٰ کچھ بھی نے رب

15	וַיִּתֵּן	מִנְשָׁה	לְמִטָּה	בְּנֵי-	רְאוּבֵן	לְמִשְׁפַּחָתָם:
	اور-دیا	موسیٰ-نے	قبیلے-کو	بنی	رائوبین-کے	خاندانوں-کے-مطابق
	H5414	H4872	H4294		H7205	H4940

دیا۔ علاقہ کا ذیل مطابق کے کنیوں کے اُس کو قبیلے کے روبن نے موسیٰ

16	וַיְהִי	לָהֶם	הַגְּבוּל	מֵעֲרֹעִיר	אֲשֶׁר	עַל-	שְׁפַת-	נַחַל	אֲרְנוֹן	וְהָעִיר	אֲשֶׁר
	اور-ہوئی	ان-کی	حد	عروعر سے	جو	پر	کنارے	نالے	ارنون-کے	اور-شہر	جو
	H1961	H1992	H1366	H6177			H8193		H0769		

בְּתוֹךְ-
بیچ

הַנַּחַל
نالے-کے

וְכָל-
اور-سارا

הַמִּישָׁר
میدان

עַל-
پر

מִידְבָּא:
میدبا

[H8432](#)

[H3605](#)

[H4334](#)

[H4311](#)

میدباکر لے سے شہر کے بیچ کے وادی اسی اور عروعر شہر پر کنارے کے ارنون وادی

17	חֶשְׁבוֹן וְכָל-חֶשְׁבוֹן	اور-سب	شہر-اُس-کے	جو	میدان-میں	دیون	اور-باموت-بعل	اور-بیت-بعل-معون
	H2809	H3605			H4334	H1769	H1120	H1010

معون، بعل بیت بعل، بامات دیون، یعنی گئے کئے سپرد کے روبن بھی شہر تمام واقع پر مرتفع میدان کے وہاں تک۔ حسبون اور

18	וְיִהְיֶה	اور-یہص	اور-قدیموت	اور-میفت
	H3096	H6932	H4158	

میفت، قدیمات، یہص،

19	וְקִרְיָתִים	اور-سبم	اور-صرت-بشحر	پہاڑ-میں	بکر	ہعמک:
	H7156	H7643	H6890	H2022		H6010

بے، میں علاقے پہاڑی واقع میں مشرق کے مُردار بحیرہ جو السحر ضرة سبماہ، قریتائم،

20	פְּעוּרוֹבֵית	اور-بیت-فعور	اور-اشدوت	پسجہ-کے	ہیشموت:نبیت
	H1047	H0794	H6449	H1020	

یسیموت۔ بیت اور آبادیاں موجود پر سلسلے پہاڑی کے پسگہ فعور، بیت

21	وְכָל-	اور-سب	شہر	میدان-کے	اور-ساری	مَمْلُכוֹת	سیحون-کی	بادشاہ	اموریوں-کے	ہامواری	اور-جو
	H3605	H4334	H3605	H4468	H5511	H4428	H0567				

בְּחֶשְׁבוֹן	حسبون-میں	اور-جس-کو	مارا	موسى-نے	اُسے	اور-کو	سرداروں	مدیان-کے	کو	اوی	اور-کو	رقم
H2809	H5221	H4872	H0853	H0853	H0853	H4080	H0853	H0189	H0853	H0853	H7552	

وְאֶת-	اور-کو	صور	اور-کو	حور	اور-کو	رבע	امیر	سیحون-کے	باشندے	زمین-کے
H0853	H6698	H0853	H2354	H0853	H7254	H5511	H3427	H0776		

موسیٰ تھا۔ شہر حسبون الحکومت دار کا جس بادشاہی پوری کی سیحون بادشاہ کے اموریوں یعنی گئے دیئے کو قبیلے کے روبن شہر تمام کے مرتفع میدان صور، رقم، اوی، نام کے رئیسوں ان تھا۔ کیا مقرر میں ملک اپنے نے سیحون جنہیں بھی کو رئیسوں مدیانی پانچ ساتھ کے اُس اور تھا ڈالا مار کو سیحون نے تھے۔ ربع اور حور

22	وְאֶת-	اور-کو	بلعام	بیٹے	بعور-کے	فال-گیر	قتل-کیا	بنی	اسرائیل-نے	تلوار-سے	ساتھ	مقتولوں-ان-کے
	H0853	H1160	H7080	H2026	H3478	H2719	H0413					

تھا۔ دان غیب جو تھا بھی بعور بن بلعام سے میں اُن گیا مارا وقت اُس کو لوگوں جن

23	וַיְהִי	اور-ہوئی	حد	بنی	رائوبین-کی	یردن	اور-حد	یہ	میراث	بنی	رائوبین-کی
	H1961	H1366	H7205	H3383	H1366	H2063	H5159				H7205

لְמִשְׁפַּחָתָם	خاندانوں-کے-مطابق	شہر	اور-گاؤں-ان-کے
H4940			

میراث کی اُس وہ اور گئیں، دی مطابق کے کنہوں کے اُس کو قبیلے کے روبن آبادیاں اور شہر یہی تھی۔ یردن دریائے سرحد مغربی کی قبیلے کے روبن ٹھہریں۔

24	וַיִּתֵּן	מִנְשָׁה	לְמִטָּה-	גֵּר	לְבָנִי-	גֵּר	לְמִשְׁפַּחָתָם:
	اور-دیا	موسی-نے	قبیلے-کو	جاد	بنی	جاد-کے	خاندانوں-کے-مطابق
	H5414	H4872	H4294	H1410	H1410	H1410	H4940

دیا۔علاقہ کا ذیل مطابق کے کنیوں کے اُس کو قبیلے کے جد نے موسیٰ

25	וַיְהִי	לְהָם	הַגְּבוּל	יַעֲזִיר	וְכַל-	עָרֵי	הַגְּלָעָד	וַחֲזִי	אֶרֶץ	בְּנֵי	עַמּוֹן	עַד-
	اور-ہوئی	اُن-کی	حد	یعزیر	اور-سب	شہر	جلعاد-کے	اور-آدھی	سرزمین	بنی	عمون-کی	تک
	H1961	H1366	H3270	H3605	H1568	H2677	H0776	H5983	H5704			
	עָרוֹעִיר	אֲשֶׁר	עַל-	בְּנֵי	רָבֵה:							
	عروعریر	جو	پر	سامنے	رہ-کے							
	H6177			H6440	H7237							

تک عروعریر شہر قریب کے رہے حصہ آدھا کا عمونیوں شہر، تمام کے جلعاد علاقہ، کا یعزیر

26	וּמַחֲשֶׁבֹן	עַד-	רָמֹת	הַמְצַפָּה	וּבְטוֹנִים	וּמַמְחִינִים	עַד-	גְּבוּל	לְדָבָר:
	اور-حشبنوں-سے	تک	رامہ	مصفاہ-کے	اور-بطونیم	اور-محنیم-سے	تک	حد	دبیر-کی
	H2809	H5704	H7434	H7434	H0993	H4266	H5704	H1366	

کے دبیر اور محنائم اور علاقہ کا درمیان کے بطونیم اور المصفاہ رامت حشبنوں، یعنی حصہ شمالی باقی کا بادشاہی کی سیحون بادشاہ کے حشبنوں اور کی اُس یوں تھا۔ مشتمل پر صفوں اور سُکات نمرہ، بیت ہارم، بیت جو گیا مل بھی حصہ مشرقی وہ کا یردن وادی کو جد علاوہ کے اس علاقہ۔ کا درمیان تھا۔کنارہ جنوبی کا جھیل کی گلیل یعنی کثرت سرحد شمالی

27	וּבְעֵימָק	הָרֶם-בֵּית	נְמֹרָה-וּבֵית	וּסְכוּת	וּצְפוֹן	יֵתָר	מַמְלַכּוֹת	סִיחּוֹן	מִלְכָּה
	اور-وادی-میں	بیت-ہارام	اور-بیت-نمرہ	اور-سکوت	اور-صفوں	بقیہ	سلطنت	سیحون-کی	بادشاہ
	H6010	H1027	H1039	H5523	H6829		H4468	H5511	H4428
	חֲשִׁבוֹן	הַיַּרְדֵּן	וּגְבּוּל	עַד-	קִצְהַ	יָם-	כְּנָרֶת	עֵבֶר	הַיַּרְדֵּן
	حشبنوں-کا	یردن	اور-حد	تک	کنارے	جھیل	کثرت-کے	پار	یردن-کے
	H2809	H3383	H1366	H5704	H3220	H3672	H5676	H3383	H4217

کے دبیر اور محنائم اور علاقہ کا درمیان کے بطونیم اور المصفاہ رامت حشبنوں، یعنی حصہ شمالی باقی کا بادشاہی کی سیحون بادشاہ کے حشبنوں اور کی اُس یوں تھا۔ مشتمل پر صفوں اور سُکات نمرہ، بیت ہارم، بیت جو گیا مل بھی حصہ مشرقی وہ کا یردن وادی کو جد علاوہ کے اس علاقہ۔ کا درمیان تھا۔کنارہ جنوبی کا جھیل کی گلیل یعنی کثرت سرحد شمالی

28	זָאת	נַחֲלַת	בְּנֵי-	גֵּר	לְמִשְׁפַּחָתָם	הָעָרִים	וַחֲצִרְיָהֶם:
	یہ	میراث	بنی	جاد-کی	خاندانوں-کے-مطابق	شہر	اور-گاؤں-اُن-کے
	H2063	H5159		H1410	H4940		

ٹھہریں۔میراث کی اُس وہ اور گئیں، دی مطابق کے کنیوں کے اُس کو قبیلے کے جد آبادیاں اور شہر یہی

29	וַיִּתֵּן	מִנְשָׁה	לְחָצִי	שָׁבֵט	מִנְשָׁה	וַיְהִי	לְחָצִי	מִטָּה	בְּנֵי-	מִנְשָׁה	לְמִשְׁפַּחָתָם:
	اور-دیا	موسی-نے	آدھے	قبیلے	منسی-کے	اور-ہوا	آدھے	قبیلے	بنی	منسی-کو	خاندانوں-کے-مطابق
	H5414	H4872	H2677	H7626	H4519	H1961	H2677	H4294	H4519	H4940	

تھادیا مطابق کے کنیوں کے اُس کو حصے آدھے کے منسی نے موسیٰ علاقہ جو

30	וַיְהִי	גְבוּלָם	מִמְחִינִים	כָּל-	הַכְּשָׁן	כָּל-	וּמַמְלַכּוֹת	עוֹג	מִלְכָּה-	הַכְּשָׁן	וְכַל-
	اور-ہوئی	حد-اُن-کی	محنیم-سے	سارا	باشان	ساری	سلطنت	عوج-کی	بادشاہ	باشان-کا	اور-سب
	H1961	H1366	H4266	H3605	H1316	H3605	H4468	H5747	H4428	H1316	H3605
	חֲזַת	יָאִיר	אֲשֶׁר	בְּכָשָׁן	שָׁשִׁים	עִיר:					
	گاؤں	یائیر-کے	جو	باشان-میں	سائھ	شہر					
	H2333	H2971		H1316	H8346						

پائی فتح نے یائیر پر جن تھیں شامل آبادیاں 60 وہ اور بسن ملک میں اُس تھا۔ مشتمل پر بادشاہی تمام کی بادشاہ عوج میں شمال کر لے سے محنائم وہ تھی۔

31	וַחֲצִי הַגִּלְעָד	וְעֵשְׂתָרוֹת	וְאֶדְרָעִי	עָרֵי מַמְלֻכּוֹת	עוֹג	בְּבִשָּׁן	לְבִנְיָמִן	מְכִיר
	اور-آدھا	اور-عشتاروت	اور-ادرعی	سلطنت	عوج-کے	باشان-میں	بنی	مکیر-کو
	H2677	H1568	H0154	H4468	H5747	H1316		H4353
	בֶּן-	לְחֻצֵי	בְּנֵי-	מְכִיר	לְמִשְׁפַּחֹתָם:			
	بیٹے	منسی-کے	بنی	مکیر-کو	خاندانوں-کے-مطابق			
	H4519	H2677	H4353	H4940				

گیا۔ دیا مطابق کے کنہوں کے اُس کو اولاد کی منسی بن مکیر سمیت ادرعی اور عستارات مراکز دو کے حکومت کی عوج حصہ آدھا کا جلعاد

32	אֶלֶּה אֲשֶׁר-	נָחַל	מִנְשָׁה	בְּעָרְבוֹת	מוֹאָב	מֵעֵבֶר	לְיַרְדֵּן	יְרִיחוֹ	מִזְרְחָה:	ס
	یہ	میراث-دیا	موسیٰ-نے	میدانوں-میں	موآب-کے	پار	یردن	یریحو	مشرق-کی-طرف	—
	H0428	H5157	H4872	H6160	H4124	H5676	H3383	H3405	H4217	

تھا۔ مقابل کے شہر یریحو میں علاقے میدانی کے موآب میں مشرق کے یردن دریائے وہ جب تھی کی وقت اُس تقسیم کی زمینوں موروثی ان نے موسیٰ

33	וּלְשֵׁבֶט	הַלְוִי	לֹא-	נָתַן	מִנְשָׁה	נַחֲלָה	יְהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל	הוּא	נַחֲלָתָם
	اور-قبیلے-کو	لاویوں-کے	نہیں	دیا	موسیٰ-نے	میراث	یہوواہ	خدا	اسرائیل-کا	وہی	میراث-ان-کی
	H7626	H3878	H3808	H5414	H4872	H5159	H3068	H0430	H3478	H1931	H5159
	כַּאֲשֶׁר	דִּבֶּר	לָהֶם:								
	جیسے	کہا	ان-سے								
		H1696									

تھا۔ کیا وعدہ سے اُن نے اُس طرح جس بے حصہ موروثی کا اُن خدا کا اسرائیل رب کیونکہ تھی، ملی نہیں زمین موروثی کوئی سے موسیٰ کو لاوی لیکن